

## LA2 اردو ٹیسٹ لینے کا طریقہ کار

### (آسان اقتباس) جملے

☆ بچے کو کوئی بھی جملہ پڑھنے کو کہیں۔ بچے/بچی کو پڑھتے وقت غور سے سنیں  
☆ بچے/بچی شائد آرام آرام سے پڑھے

یہاں سے  
شروع کریں

اگر بچہ/بچی جملہ پڑھتے ہوئے بہت زیادہ رکے یا جملے میں 4 الفاظ سے زیادہ پڑھنے میں مشکل ہو یا الفاظ کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے تب بچہ/بچی کو الفاظ کی فہرست دکھائیں

اگر بچہ/بچی جملہ روانی سے اور آسانی کے ساتھ پڑھتا/پڑھتی ہے تب اسے کہانی پڑھنے کا کہیں

### کہانی

### الفاظ

☆ بچے/بچی کو الفاظ کی فہرست میں سے کوئی سے 5 الفاظ پڑھنے کو کہیں۔ بچے کو خود الفاظ منتخب کرنے دیں۔ اگر بچہ/بچی خود منتخب نہیں کرتے تب بچے/بچی کو الفاظ کی طرف اشارہ کر کے بتائیں  
☆ اگر بچہ/بچی 5 میں سے کم از کم 4 الفاظ آسانی سے پڑھ لے تب اسے کہیں کہ دوبارہ سے جملہ پڑھنے کی کوشش کرے  
☆ اگر بچہ/بچی الفاظ کو درست طریقے سے پڑھے مگر جملہ پڑھنے میں مشکل ہو تو اس بچے/بچی کو "الفاظ" کی سطح کا بچہ/بچی مارک کریں

☆ بچے/بچی کو کہانی دکھائیں۔ اگر بچہ/بچی اسے روانی سے اور آسانی کے ساتھ پڑھتا/پڑھتی ہے تو اسے "کہانی" کی سطح کا بچہ/بچی مارک کریں۔ جو بچہ/بچی کہانی پڑھ لے اس کو کہانی کے متعلق دو سوال پوچھیں اور جوابات کے مطابق مارک کریں۔  
☆ اگر بچہ/بچی روانی سے کہانی نہ پڑھے اور بہت زیادہ رکے تو اسے "جملہ" کی سطح کا بچہ/بچی مارک کریں

اگر بچہ/بچی منتخب شدہ 5 الفاظ میں سے کم از کم 4 الفاظ درست طریقے سے نہیں پڑھ سکتا/سکتی تب اسے حروف کی فہرست دکھائیں

### حروف

☆ بچے/بچی کو حروف کی فہرست میں سے کوئی سے 5 حروف پڑھنے کو کہیں۔ بچے کو خود حروف منتخب کرنے دیں۔ اگر بچہ/بچی خود منتخب نہیں کرتے تب بچے/بچی کو حروف کی طرف اشارہ کر کے بتائیں  
☆ اگر بچہ/بچی 5 میں سے کم از کم 4 حروف آسانی سے پڑھ لے تب اسے الفاظ کی فہرست دوبارہ دکھائیں  
☆ اگر بچہ/بچی منتخب شدہ 5 حروف میں سے کم از کم 4 حروف درست طریقے سے پڑھ سکتا/سکتی ہے لیکن الفاظ نہیں پڑھ سکتا/سکتی تو اسے "حروف" کی سطح کا بچہ/بچی مارک کریں  
☆ اگر بچہ/بچی منتخب شدہ 5 حروف میں سے کم از کم 4 حروف درست طریقے سے نہیں پڑھ سکتا/سکتی تب اسے "حروف نہیں پڑھ سکتا" کے بچے کے طور پر مارک کریں

## حساب ٹیسٹ لینے کا طریقہ کار LA3

